

از عدالت اعظمی

بی وی پنگر اور دیگران

بنام

سی۔ جی۔ ساٹری

(بی پی سنہا، سی جے، جے ایل کپور، پی بی گھیند را گدگار،
کے۔ سبھارا آور کے این و انچو، جسٹسز۔

رینٹ کنٹرولر کرایہ داروں کی بے خلی کے خلاف پابندیاں۔ ڈگری فرمان باپت قبضہ مکان۔
کرایہ دار کی عدم موجودگی میں ہاؤس ڈیلیوری پر قبضہ کرنے کا فرمان دیا گیا ہے۔ تعمیر عدالت کا
پابندیوں کو نظر انداز کرنا۔ قانونی جوازیت۔ انمل۔ منسوخ میسور ہاؤس رینٹ اینڈ رہائش
کنٹرول آرڈر، 1948، دفعات 19 اور 16 اور ٹرانسفر آف پر اپرٹی ایکٹ 1882 (ایکٹ 17
آف 1882)۔ ضابطہ دیوانی (ایکٹ 7 آف 1908) (دفعات 47، 151)۔

اپیل گزاروں نے 22 جولائی 1951 کو ایک مکان پر قبضہ حاصل کرنے کے حق میں ایک
فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کی فراہمی کا حکم مدعاعلیہ کو بغیر اطلاع کے اور اس
کی غیر موجودگی میں دیا گیا تھا۔ جواب دہنہ نے دفعات 47، 144 اور 151 ضابطہ دیوانی
کے تحت تعمیلی عدالت میں میں ڈیلیوری کے یک طرفہ حکم کو منسوخ کرنے اور گھر کی ملکیت کو اس
کے پاس یا متبادل طور پر دوبارہ پہنچانے کے لیے، اپیل کنندگان کو گھر سے غیر منقولہ جائیداد کو
ہٹانے کے لیے سہولت فراہم کرنے کے حکم کے لیے ایک درخواست دی۔ تعمیلی عدالت نے اپیل پر
گزارکی اس دلیل کو برقرار رکھا کہ مدعاعلیہ کی درخواست قبل قبول نہیں تھی۔ مدعاعلیہ کی اپیل پر
ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ میسور ہاؤس رینٹ اور رہائش کنٹرول آرڈر، 1948 کی دفعات
19 اور 16 کی وجہ سے مدعاعلیہ کو بے خل کرنے کا حکم دینے کا کوئی دائرہ اختیار تعمیلی کورٹ کے
پاس نہیں ہے۔ خصوصی اجازت کے ذریعے اس عدالت میں اپیل پر، اپیل گزاروں نے دیگر
باتوں کے ساتھ دعویٰ کیا:

جیسا کہ انہوں نے عدالت عالیہ میں بھی کیا، کہ میسور ہاؤس رینٹ کنٹرول آرڈر 1948 ٹرانسفر
آف پر اپرٹی ایکٹ 1882 (ایکٹ 7 آف 1882) کی دفعات کے منافی تھا، جو پارٹ بی

اسٹیٹس (قانون) ایکٹ 1951 (ایکٹ ۱۹۵۱ آف ۱۹۵۱) کے ذریعے ریاست میسور میں لاگو ہوا، جو کیم اپریل ۱۹۵۱ کو نافذ ہوا اور اس لیے ہاؤس کنٹرول آرڈر فریقین کے حقوق پر اس دن کام نہیں کر سکا جب تعمیلی عدالت نے اپیل گزاروں کو قبضہ پہنچانے کا حکم دیا تھا، یعنی ۹ جولائی ۱۹۵۱، یا جب ڈیلیوری دراصل دی گئی تھی یعنی ۲۲ جولائی ۱۹۵۱ کو۔

مانا گیا کہ ٹرانسفر آف پر اپرٹی ایکٹ صرف اس وقت نافذ ہوا جب اس میں ۱۲ ستمبر ۱۹۵۱ کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے توسعہ کی گئی۔ دفعہ ۱۳ ایکٹ کے تحت، یعنی کیم اکتوبر ۱۹۵۱ سے، اور اس لیے میسور ہاؤس رینٹ اور ایکومینیٹیشن کنٹرول آرڈر، ۱۹۴۸، کو کیم اپریل ۱۹۵۱ سے منسوخ نہیں کیا گیا تھا، جب پارٹ بی اسٹیٹس (قانون) ایکٹ، ۱۹۵۱ نافذ ہوا تھا اور جب قبضہ پہنچایا گیا تھا تب نافذ تھا۔ اس وقت یہ ایک موجودہ قانون تھا جسے آئین کے آرٹیکل ۳۷۲ کے ذریعے محفوظ کیا گیا تھا اور آرٹیکل ۲۵۴ سے متاثر نہیں ہوا تھا، اور اس معاملے میں ٹرانسفر آف پر اپرٹی ایکٹ (ایکٹ ۱۷ آف ۱۸۸۲) کی مخالفت کا سوال پیدا نہیں ہوا تھا۔

میسرز ٹلکرام رام بخش بمقابلہ بینک آف پیالہ، اے۔ آئی۔ آر۔ ۱۹۵۹ پنجاب ۴۰، غور کیا۔

ضابطہ دیوانی کا دفعہ ۱۴۷ اس کارروائی پر لاگو ہوتا تھا جس سے یہ اپیل پیدا ہوئی ہے کیونکہ یہ سوال کہ آیا ڈگری مکمل طور پر تعمیل ہو چکی تھی، اس لئے عدالت تعمیل، اطمینان اور وصول ڈگری کے معاملہ سے فارغ ہو چکی تھی۔

رمنا بمقابلہ نلا پراجو، اے۔ آئی۔ آر۔ ۱۹۵۶ سپریم کورٹ ۱۸۷ اور جے۔ مارٹ بمقابلہ محمد شیرازی اور فرزندان، اے۔ آئی۔ آر۔ ۱۹۳۰ پر یوئی کوسل صفحہ ۸۶، غور کیا۔

جہاں عدالت قانونی، پابندی سے واقف نہیں تھی جس کے ذریعے کسی حکم نامے پر عمل درآمد منوع تھا اور کرایہ دار کے خلاف اخراج کا حکم نامہ منظور کیا گیا تھا تو تعمیلی عدالت حکم نامے پر عمل درآمد نہیں کر سکتی تھی اور اس طرح کے حکم نامے پر عمل درآمد میں منظور کردہ یک طرفہ حکم کے تحت دی گئی کسی بھی قبضہ کو زیر دفعہ ۱۵۱ ضابطہ فوجداری منسوخ کیا جا سکتا تھا۔

کے محمد سیکری صاحب بمقابلہ مادھوا کورپ، اے آئی آر ۱۹۴۹ مدراس صفحہ ۸۰۹، پر غور کیا۔

ریس جوڈیکیٹا اور اسٹوپل کی بنیاد پر اپل کنندہ کی تنازعات رو دلیل بلا کسی طاقت تھی۔ ہاؤس رینٹ کنٹرول آرڈر کے دفعات 9(1) اور 16 نے حکم نامے پر عمل درآمد کرنے کے عدالت کے اختیار پر پابندیاں لگادیں اور انہیں نظر انداز کرنا محض دائرة اختیار کے استعمال میں غلطی نہیں تھی۔

دیوانی اپل کا اختیار: سول اپل نمبر 302 سال 1955۔

میسور عدالت عالیہ کے فیصلہ و حکم نامہ مورخہ 13 اپریل سال 1954 سے باقاعدہ اپل نمبر 1951-52 سال 1951 سے خصوصی اجازت کے بنا پر اپل۔

اپل گزاروں کے لیے ایس۔ اے۔ گوپال راؤ اور بی۔ آر۔ ایل۔ آئینگر۔

مدعاعلیہ کی طرف سے میرلی این لکشی ناراننا پا، پی رام ریڈی، آرتھیا گراجن اور سی وی ایل نارائے۔

8 ستمبر 1960 عدالت کا فیصلہ جسٹس کپور سے دیا گیا۔ اس اپل میں بہت کم بنیاد ہے اور اس لیے اسے مسترد کیا جانا چاہیے۔ اپل کنندہ گانڈگری داران اور جواب دہندہ مدیون ہوتے ہیں۔ 3 فروری 1941 کو، ایک رجسٹرڈ دستاویز کے ذریعے اپل کنندگان کے والدے مدعاعلیہ کو 10 سال کی مدت کے لیے تنازع عہ مکان لیز پر دیا جس میں مدعاعلیہ کی خواہش کے مطابق مزید مدت کے لیے تجدید کا آپشن تھا۔ یہ گھر مدعاعلیہ نے اپنے ہوٹل کے لیے استعمال کیا تھا۔

25 جنوری 1945 کو ان کے والد کا انتقال ہوا۔ 21 دسمبر 1945 کو، اپل گزاروں نے اس اعلان کے لیے مقدمہ دائرة کیا کہ 3 فروری 1941 کالیز کا دستاویز، جسے ان کے والد نے انجام دیا تھا، قانونی ضرورت یا خاندان کے فائدے کے لیے نہیں تھا، کہ علیحدگی ان پر پابند نہیں تھی اور لیز کے تحت تجدید کا اختیار غیر قیمتی صورتحال کی وجہ سے کا عدم اور ناقابل عمل تھا۔ اپل گزاروں نے مزید باپت حوالگی قبضہ اور ڈگری باپت مبلغ 655 روپے بطور لگان اور آئندہ لگان منافع بر 250 روپیہ ہر سال از ابتدائی کیم دسمبر 1945 کیلئے استدعا کیا۔ مدعاعلیہ نے 11 مارچ 1946 کو اپنا تحریری بیان اور 26 نومبر 1946 کو ایک اضافی تحریری بیان دائر کیا، جس میں اس نے میسور ہاؤس رینٹ کنٹرول آرڈر 1945 کی وجہ سے عدالت کے دائرة اختیار پر اعتراض اٹھایا۔ ٹرائل جج نے ابتدائی اعتراض کو برقرار رکھا اور مقدمہ خارج کر دیا۔ اپل پر، ہائی کورٹ نے اس حکم نامے کو اس بنیاد پر خارج کر دیا کہ مقدمے کی نوعیت اور

دائرہ کارکوڑا مل کورٹ نے غلط سمجھا تھا اور یہ کہ یہ زمیندار اور کرایہ دار کے تعلقات اور اس پر منی نہیں تھا۔ دفعہ 8(1) میسور ہاؤس رینٹ کنٹرول آرڈر لا گئیں تھا اور کیس کو دوبارہ ٹرائل کے لیے ریمانڈ کر دیا گیا۔

23 اگست 1948 کو مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا۔ ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا کہ لیز کیم می 1941 سے دس سال کی پہلی مدت کے لیے پابند تھا، کیونکہ اس کی قانونی ضرورت کی وجہ سے حمایت کی گئی تھی۔ لیکن تجدید کا اختیار کا عدم اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ناقابل عمل تھا اور اس لیے قبضہ کے لیے ایک فرمان دس سال کی معیاد ختم ہونے پر، یعنی کیم می 1951 کو نافذ کرنے کے لیے منظور کیا گیا۔ اپیل پر ہائی کورٹ نے 22 اگست 1950 کو اس فرمان کی تصدیق کی۔

9 جولائی 1951 کو اپیل گزاروں نے فرمان پر عمل درآمد کیا اور 22 جولائی 1951 کو قبضہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈیلیوری کا آرڈر مدعاعلیہ کو بغیر اطلاع کے اور اس کی غیر موجودگی میں دیا گیا تھا۔ کارروائی، "ملاحظہ موقعہ" کے مدعاعلیہ متنازعہ جائیداد کے بڑے حصے کی فراہمی کے بعد موقع پر آیا تھا، اپیل گزاروں کو پہنچا دیا گیا تھا۔

مورخہ 13 اگست سال 1951 کو جواب دہنده نے ایک درخواست تعمیلی عدالت ضلع نج کے پاس باپت منسوخی یک طرفہ حکم حوالگی اور دوبارہ حوالگی قبضہ مکان اور متبادل میں باپت حکم بنام اپیل کنندہ گان کہ وہ جواب دہنده کو منقولہ جائیداد اور اشیاء مندرجہ درخواست کو ہٹانے کیلئے دفعات 47، 144 اور 151 ضابطہ فوجداری پیش کیا ہے۔ اپیل گزاروں نے استدعا کی کہ درخواست قابل عمل نہیں ہے۔ ضلعی نج نے 14 نومبر 1951 کو اس دلیل کو برقرار کھا اور درخواست کو مسترد کر دیا۔ ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی اور اس نے تعمیلی عدالت کے حکم کو الٹ دیا اور اپیل گزاروں کو ہدایت کی کہ وہ مدعاعلیہ کو متنازعہ گھر کا قبضہ واپس کریں اور ساتھ ہی وہ قابل منتقلی بھی جو اس وقت گھر میں تھے جب مدعاعلیہ کو بے دخل کیا گیا تھا۔ عدالت عالیہ نے فیصلہ دیا کہ میسور ہاؤس رینٹ اینڈ ایکو میڈیشن کنٹرول آرڈر، 1948 کی دفعات کی وجہ سے مدعاعلیہ کو بے دخل کرنے کا حکم دینے کا کوئی دائرہ اختیار تعمیلی عدالت کے پاس نہیں ہے، جو بے دخلی کی تاریخ پر نافذ تھا۔ عدالت عالیہ نے آرٹیکل 133 کے تحت سند سے انکار کر دیا، اپیل گزاروں نے 12 جنوری 1955 کو اس عدالت سے اپیل کرنے کے لیے خصوصی اجازت حاصل کی، اور اس طرح معاملہ اس مقام پر پہنچا ہے۔

فیصلے کا سوال بنیادی طور پر 1945 اور 1948 کے دو ہاؤس رینٹ کنٹرول آرڈرز کی دفعات کے اطلاق پر ہوتا ہے اور یہ کہ وہ مقدمے کی کارروائی اور اس پر عمل درآمد پر کس حد تک لاگو تھے۔ میسور ہاؤس رینٹ کنٹرول آرڈر 1945 مورخہ 6 نومبر 1945 کو نافذ العمل میں آیا اور دفعہ 8(1) اس ایکٹ کے تحت کراپیڈ داروں کی بے خلی پر پابندی عائد کی گئی تھی اور اس دفعہ کا متعلقہ حصہ یہ تھا:-

دفعہ 8 "(1) مکان کے قبضے میں کسی کراپیڈ دار کو اس سے بے خل نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ ڈگری پر عمل درآمد میں ہو یا کراپیڈ داری کے خاتمے سے پہلے یا بعد میں، سوائے اس شق کی دفعات کے-----"

(2) "ایک مکان مالک جو قبضے میں موجود کراپیڈ دار کو بے خل کرنا چاہتا ہے، اس سلسلے میں ہدایت کے لیے کنٹرولر کو درخواست دے گا۔ اگر کنٹرولر کراپیڈ دار کو وجہ بتانے کا معقول موقع دینے کے بعد مطمئن ہو جائے گا-----"

اس آرڈر کو میسور رینٹ اور اکموڈیشن آرڈر 1948 جو کہ کیم جولائی 1948 کو نافذ ہوا سے ہٹایا گیا۔ اس حکم کی متعلقہ دفعات، یعنی دفعات 9 اور 16 جو موجودہ اپیل پر لاگو ہوتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں:-

دفعہ 9 "(1) مکان کے قبضے میں کسی کراپیڈ دار کو وہاں سے بے خل نہیں کیا جائے گا چاہے وہ حکم نامے پر عمل درآمد میں ہو یا دوسری صورت میں سوائے اس کے کہ اس کے مطابق اس شق کی دفعات ہو-----"

(2) ایک مالک مکان جو کراپیڈ دار کو قبضے سے بے خل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کیلئے کنٹرولر کو ہدایت کرنے کیلئے درخواست دے گا۔ اگر کنٹرولر کراپیڈ دار کو اس طرح کی درخواست کے خلاف وجہ بتانے کا مناسب موقع دینے کے بعد مطمئن ہو:------"

دفعہ 16 "اس حکم میں کچھ بھی مکان مالک کو کسی مجاز سول عدالت کے سامنے کراپیڈ دار کی بے خلی کے لیے مقدمہ دائر کرنے سے نہیں روکے گا، بشرطیکہ کسی سول عدالت کے ذریعے کراپیڈ دار کی بے خلی کے لیے منظور کردہ کوئی حکم نامہ اس وقت تک نافذ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس سلسلے میں کنٹرولر سے ٹھیکیٹ حاصل نہ کیا جائے۔"

ہائی کورٹ کے سامنے اپیل گزاروں کی جانب سے یہ دلیل دی گئی اور ہمارے سامنے

یہ دلیل دھرائی گئی کہ میسور ہاؤس کینٹ کنٹرول آرڈر 1948 پر اپریل ٹرانسفر ایکٹ (1882 کا ایکٹ ۱۷) کی دفعات کے منافی تھا جسے پارٹ بی اسٹیٹس (لائیز) ایکٹ 1951 (1951 کا ایکٹ ۱۱۱) کے ذریعے ریاست میسور میں نافذ کیا گیا تھا۔ یہ ایکٹ 22 فروری 1951 کو نافذ کیا گیا تھا، اور کیم اپریل 1951 کو نافذ ہوا، جسے مقرر کردہ دن کہا جاتا تھا۔ لہذا یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہاؤس کنٹرول آرڈر فریقین کے حقوق پر اس دن کام نہیں کر سکتا جب ایگزیکٹو کورٹ نے اپیل گزاروں کو قبضہ پہنچانے کا حکم دیا تھا، یعنی 9 جولائی 1951، یا جب ڈیلویوری اصل میں دی گئی تھی، یعنی 22 جولائی 1951 کو۔ اس دلیل کی طاقت کو جانچنے کے لیے پارٹ بی اسٹیٹس (قوانين) ایکٹ کی دفعات کا جائزہ لینا ضروری ہے اور اس کے نتیجے میں ریاست میسور میں ٹرانسفر آف پر اپریل ایکٹ کیسے اور کب موڑ اور فعال ہوا۔ اس ایکٹ کا سیکشن 3 بعض قوانین اور آرڈننس کی توسعی اور ترمیم سے متعلق ہے۔ شیدول میں بیان کردہ قوانین اور آرڈننس میں ترمیم کی گئی اور جیسا کہ بیان کیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں اس کا چوتھا پیراگراف لاگو ہوا۔ دفعہ 1 الفاظ "بمبئی، پنجاب یا دہلی" کے لیے، وہ الفاظ جو مذکورہ ریاستوں نے تبدیل کیے تھے۔ لہذا پارٹ بی اسٹیٹس (لائیز) ایکٹ کا اثر محض یہ تھا کہ ٹرانسفر آف پر اپریل ایکٹ، ریاست میسور کو اسی بنیاد پر رکھا گیا تھا جس پر بمبئی، پنجاب یا دہلی کی ریاستیں تھیں۔ یہ نوٹیفیکیشن نمبر 2676-سی ی ایس کی وجہ سے تھا۔ 5-56-46 مورخہ 12 ستمبر 1951، کہ جائیداد کی منتقلی کے قانون کو کیم اکتوبر 1951 سے ریاست میسور تک بڑھا دیا گیا تھا۔ نتیجہ کا طور پر ریاست کے لیزوں پر لاگو ہونے والے ریاست کے قوانین جن میں میسور ہاؤس رینٹ کنٹرول آرڈر 1948 شامل تھا، جاری رہے، اور ان مقدمات پر لاگو ہوتے رہے جو اس وقت تک زیرالتوا تھے جب تک کہ اسے میسور رینٹ کنٹرول ایکٹ 1951 کے ذریعے منسوخ نہیں کیا گیا جسے 16 اگست 1951 کو صدر کی منظوری حاصل ہوئی۔

لہذا یہ دلیل کہ کیم اپریل 1951 سے، نامناسبت کے نتیجے میں 1948 کے ہاؤس رینٹ کنٹرول آرڈر کو منسوخ کر دیا گیا تھا، اسے غیر مستحکم قرار دیا جانا چاہیے اور اسے برقرار نہیں رکھا جاسکتا، کیونکہ یہ ایک موجودہ قانون تھا جسے آرٹیکل 372 نے محفوظ رکھا تھا اور جو کہ آرٹیکل 254 سے غیر متاثر ہے۔ پنجاب ہائی کورٹ نے ایم/ایس تکرم رامکش بمقابلہ بینک آف پی ال (ا) پارٹ بی اسٹیٹس (قوانين) ایکٹ بر اطلاق کے ٹرانسفر آف پر اپریل ایکٹ پی ای پی ایس یو پر کہا؟

”جو کچھ کے سنظر ایکٹ 1951 نے جو کچھ کیا ہے وہ پارٹ بی ریاستوں کے لیے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایکٹ کو علاقوں کے کسی بھی حصے تک بڑھانا ممکن بنایا، درحقیقت تاہم، یہ پی ای پی الیس یو یا پنجاب کے ذریعے کبھی نہیں کہا گیا تھا اور ڈر انسر ف آف پر اپرٹی ایکٹ وہاں نافذ نہیں ہے۔ ان حالات میں دلیل کا مزید جائزہ لینا غیر ضروری ہے۔“

اگرچہ اپیل کی ساعت کے وقت ہائی کورٹ میں نامناسبت کا سوال اٹھایا گیا تھا، لیکن اس کا حقیقی اثر ہے دفعہ 3 پارٹ بی ریاستوں (قوانين) ایکٹ کے بارے میں تعییم فاضل جوں کے نوٹس میں نہیں لایا گیا تھا اور نہ ہی ان کے سامنے نوٹیفیکیشن پیش کیا گیا تھا، لیکن بوقت انکار کرنے اجرائی سند تخت آرٹیکل 133(1) آئین ہند عدالت عالیہ کی جانب سے انکار کرنے کے اپنے حکم میں اس پر بحث کی تھی۔ اس لیے اس اپیل میں نامناسبت کی دلیل مکمل طور پر غیر موثر ہے۔

دفعہ 47 کا ان کاراواںیوں پر لا گونہ ہونا جن میں سے ہمارے سامنے اپیل میں اٹھائی گئی ہے، لیکن یہ دلیل اتنی ہی غیر معقول ہے کیونکہ یہ سوال کہ آیا فیصلہ مکمل طور پر مطمئن تھا اور اس وجہ سے عدالت تعییل ادا یکی اور اطمینان سے فارغ ہو چکی ہے۔ اس عدالت نے رمنا بمقابلہ نلا پراجو (2) میں فیصلہ دیا تھا کہ:

”جب کسی فرمان پر عمل درآمد میں کسی فروخت پر اس بنیاد پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی شرائط کے مطابق نہیں ہے، تو یہ سوال اس وقت مشتعل ہو سکتا ہے، جب یہ حکم نامے کے فریقین کے درمیان پیدا ہوتا ہے، صرف ایک درخواست دفعہ 47 کے تحت، اور کسی علیحدہ مقدمے میں نہیں۔“

(1) اے۔ آئی۔ آر۔ 1959 پنجاب۔ 440, 447

(2) اے۔ آئی۔ آر۔ 1956 ایس۔ سی۔ 87, 91

بے۔ میریٹ بمقابلہ محمد شیرازی اینڈ سنز (1) بھی دیکھیں جہاں حقائق یہ تھے کہ یک حکمنامہ تعییلی عدالت نے حکم نامے کے ہدایت کے بر عکس حکم نامے کے حامل کو ایک مخصوص فنڈ کی ادا یکی کی ہدایت کی تھی۔ مدرس ہائی کورٹ نے کے محمد سیکری صاحب بمقابلہ مادھو کروپ (2) میں فیصلہ دیا کہ جہاں تعییلی عدالت کرایہ کی پابندی کے قانون میں ترمیم سے واقف نہیں تھی جس کے ذریعے فرمان پر عمل درآمد منوع تھا اور اس نے بے خلی کا حکم منظور کیا۔ کرایہ دار کے خلاف بے خلی کا حکم جس کے ذریعے سے ڈگری کے تعییل کروانے کو منع کیا گیا ہے اور کرایہ دار کے خلاف بے خلی کا حکم صادر کیا گیا، تعییلی عدالت ڈگری کا عمل درآمد نہیں کر سکتا اور کوئی بھی

قبضہ اگر کیہ طرفہ طور دلایا گیا تو وہ ضابطہ دیوانی کے دفعہ 151 کے تحت منسون خ کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ معاملہ میں بھی برابری کے طور مانع نہ توی ہے اور دفعہ 47 کو دفعہ 151 کے ساتھ مل کر پڑھنے سے جواب دہندگان کے حق میں قبضہ والپس دلوانے کا حکم بھی برابر جاری رہ سکتا ہے۔

اپلی گزاروں کی طرف سے امر فیصل شدہ کے اطلاق، معافی اور امر عارضی کے دفاع کو بھی اٹھایا گیا۔ امر فیصل شدہ کی دلیل مدعایلیہ کی جانب سے 11 مارچ 1946 کو اپنے تحریری بیان میں کی گئی عرضی پر منی تھی، جس میں اس نے استدعا کی تھی کہ ہاؤس رینٹ کنٹرول آرڈر، 1945 کی وجہ سے دیوانی عدالت کو بے خلی کا حکم دینے کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے، جس پر اپلی گزاروں کا جواب یہ تھا کہ مقدمے کی نوعیت اور اس کے نتیجے میں جودا درسی وہ ما نگ رہے تھے، اس پر غور کرتے ہوئے عدالت کے دائیرہ اختیار کی عرضی مدعایلیہ کے لیے کھلی نہیں تھی۔ اس کے بعد دیوانی عدالت نے اب ایک مسئلہ اٹھایا "کیا اس عدالت کو ہاؤس رینٹ کنٹرول آرڈر کے پیش نظر مقدمے کی سماعت کا دائیرہ اختیار حاصل ہے" جس کا فیصلہ مدعایلیہ کے خلاف کیا گیا تھا اور اپلی گزاروں کے حق میں ایک فرمان 23 اگست 1945 کو منظور کیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ ہمارے سامنے اس دلیل کی بنیاد بنا کر حکم نامے کی ناقابل تفہیم کی درخواست نہیں اٹھائی جاسکتی کیونکہ اس پر عدالتی حکم کے اصول پر پابندی تھی۔ امر فیصل شدہ کی عرضی اپلی گزاروں کے لیے دستیاب نہیں ہے کیونکہ ہاؤس رینٹ کنٹرول آرڈر کی وجہ سے منع حکم نامے کی منظوری کے خلاف نہیں تھی بلکہ اس پر عمل درآمد کے خلاف تھی اور اس لیے عمل درآمد پر اعتراض صرف حکم نامے پر عمل درآمد کے وقت لیا جا سکتا تھا

(1) اے۔ آئی۔ آر۔ 1930 پ۔ س۔ 86، (2) اے۔ آئی۔ آر۔ 1949 مدرس۔ 809

جو فوری معاملے میں نہیں کیا جا سکا کیونکہ تعیینی عدالت کے ذریعے مدعایلیہ کو نوٹس دیے بغیر ڈیلیوری کا حکم منظور کیا گیا تھا۔ اس لیے ہمیں امر فیصل شدہ کی بنیاد پر عذر کو ضروری پسپا کرنا چاہیے۔

غدر معافی اور غذر عارضی کی دلیل بھی طاقت سے مبراہے۔ یہ عرضی ایک خط پر منی تھی جسے مدعایلیہ کے وکیل نے مدعایلیہ کو جواب میں بھیجا تھا جس میں اپلی گزاروں کو قبضے میں رکھنے کے انتظامات کرنے کو کہا گیا تھا۔ سابق نے اس پر جواب دیا کہ اس کا موکل انتظامات کر رہا ہے اور جیسے ہی وہ ایسا کر سکے گا، وہ اس کا قبضہ اپلی گزاروں کے حوالے کر دے گا۔ یہ غدر معافی اور غذر عارضی کی درخواست کی پائیداری کے لیے ایک کمزور بنیاد ہے۔ مدعایلیہ کی طرف

سے ایسا کوئی طرز عمل نہیں ہے جس نے اپل گزاروں کی پوزیشن تبدیل کرنے پر آمادہ کیا ہوا یا کسی بھی طرح سے ان کے حقوق کو متناہی کیا ہوا اور عدم نفاذ کی درخواست جو لوگئی ہے وہ قانون پر مبنی ہے اور قانون کے خلاف کوئی عذر عارضی نہیں ہو سکتا۔ اپل گزاروں کی طرف سے لی گئی یہ بنیاد یکساں طور پر غیر مستحکم ہے اور اسے مسترد کیا جانا چاہیے۔

تازعہ نے دفعات 9(1) 16 سال 1948ء میں ریاست کنٹرول آرڈر کا دائرہ اختیار کے استعمال میں ایک غلطی سے زیادہ درست نہیں لگتا ہے کیونکہ وہ حصے فرمان کے نفاذ میں رکاوٹ ہیں نہ کہ محض دائرہ اختیار کے استعمال میں غلطی۔ موجودہ معاملے میں مذکورہ بالا دو دفعات حکم نامے پر عمل درآمد کرنے کے عدالت کے اختیار پر پابندی تھی اور اس لیے اس دلیل کو بھی مسترد کیا جانا چاہیے۔ نتیجے میں یہ اپل ناکام ہو جاتی ہے اور آخر ارجات کے ساتھ مسترد کر دی جاتی ہے۔

اپل مسترد کردی گئی